

برائے فوری اجراء

## مقامی فنکاروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کی اعانت کے لیے سٹی آف برامپٹن نے گرانٹ کی درخواستیں موصول کرنے کا آغاز کر دیا ہے

برامپٹن، آن (4 اکتوبر 2021) – آج سے آغاز کرتے ہوئے سٹی آف برامپٹن نے کمیونٹی گرانٹ کے دو مواقع کے لیے درخواستیں وصول کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے، جن میں سے ایک برامپٹن کی ایسی غیر منافع بخش تنظیموں کی معاونت کے لیے ہے جو انتہائی اہم نوعیت کے پروگرام اور خدمات سر انجام دے رہی ہیں جبکہ دوسرے پروگرام میں کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر شدہ مقامی فنکاروں کی بحالی میں مدد کی فراہمی کے لیے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔

### ایڈوانسڈ برامپٹن فنڈ

\$600,000 ڈالر کا کمیونٹی گرانٹ پروگرام جس کے ذریعے کمیونٹی کی ضروریات پوری کرنے والے پروگراموں اور خدمات کی فراہمی کے لیے برامپٹن سے تعلق رکھنے والی اہل غیر منافع بخش یا خیراتی تنظیموں کو فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔

اس میں فنڈنگ میں تین دھارے شامل ہوں گے:

- **ابھرتے ہوئے** - نئے اور پرچندت پروجیکٹس کے لیے \$5,000 تک مہیا کیے جائیں گے۔ درخواستیں 4 تا 29 اکتوبر تک وصول کی جائیں گی۔
- **ترقی پذیر** - ایسے پروگراموں کے لیے \$12,500 تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم ایک مرتبہ چل چکے ہیں۔ درخواستیں 4 اکتوبر تا 29 نومبر تک وصول کی جائیں گی۔
- **وسعت پذیر** - ایسے پروگراموں کے لیے \$25,000 تک کے فنڈز جاری کیے جائیں گے جو برامپٹن میں کم از کم دو مرتبہ چل چکے ہیں۔ درخواستیں 4 اکتوبر تا 29 نومبر تک وصول کی جائیں گی۔

فنڈنگ کے تمام دھاروں کے لیے درخواستیں 2022 میں ہونے والے منصوبوں سے متعلق ہوں گی۔ گرانٹ ان کے لیے دستیاب ہو گی جو برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے خدمات فراہم کرتے ہوں؛ بشمول اندراج شدہ غیر منافع بخش تنظیمیں، رجسٹرڈ چیرٹیز، ابھرتے ہوئے تنظیمیں اور انکارپوریٹڈ غیر منافع بخش گروپ۔ فنڈنگ کے ہر دھارے کے لیے، درخواست دہندگان کو لازمی طور پر [کونسل کی مدت کی](#) [ترجیح](#) منتخب کرنی ہو گی جس کے ساتھ ان کا پروجیکٹ مطابقت رکھتا ہو۔

دلچسپی رکھنے والی تنظیموں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ درخواست دینے کے عمل کے متعلق کسی ورچوئل معلوماتی نشست میں شرکت کریں:

- 7 اکتوبر – ایمرجنگ فنڈ انفارمیشن سیشن
- 14 اکتوبر – ڈیولپنگ فنڈ انفارمیشن سیشن
- 21 اکتوبر – ایمپلیفاننگ فنڈ انفارمیشن سیشن

مقامی غیر منافع بخش تنظیموں اور چیرٹیز کی مزید معاونت کے لیے ایڈوانس برامپٹن فنڈ نے غیر منافع بخش سیکٹر ٹولپمنٹ ورکشاپس کے انعقاد کے لیے ریٹرس یونیورسٹی کے G ریمنڈ چینگ سکول آف کانٹینوئنگ ایجوکیشن سے شراکت دای کی ہے، جو تنظیموں کو ان کی صلاحیت بڑھانے اور شعبے کی تعلیم اور مہارتوں کی تعمیر میں مدد دینے پر اپنی توجہ مرکوز کرے گی۔ ورکشاپس کا انعقاد نومبر کے مہینے میں کیا جائے گا۔ تفصیلات [brampton.ca/abf](http://brampton.ca/abf) پر ملاحظہ کریں۔

فنکاروں کے لیے نیا کووڈ-19 ریکوری فنڈ

اس سال نئی بات یہ ہے کہ سٹی آف برامپٹن اور آرٹس، کلچر اینڈ کریٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی (ACCIDA) کو کووڈ-19 ریکوری فنڈ فار آرٹسٹ متعارف کراتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، یہ برامپٹن کے تخلیقی شعبے کو مدد فراہم کے لیے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے کیونکہ اونٹیریو میں وباء کے بعد اب دوبارہ کھلنے اور بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ پروگرام فنکاروں اور فنون کی تنظیموں کے لیے 2020 کے کووڈ-19 ریلیف فنڈ کی ایک توسیع ہے۔

فنکار انفرادی حیثیت میں، وباء کے تناظر میں اپنی تخلیقی مشق کو پختہ کرنے، مطابقت پیدا کرنے یا تعمیر نو میں مدد کے لیے \$2,000 تک کی مالی معاونت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فنکاروں سے انفرادی حیثیت میں درخواستیں، 4 اکتوبر سے جاری بنیادوں پر 2021 کے اواخر تک یا جب تک کہ دستیاب فنڈنگ ختم نہ ہو جائے، قبول کی جائیں گی۔ دستیاب فنڈنگ کی کل رقم \$100,000 ہے۔

درخواست کی شرائط کا جائزہ لینے کے لیے فنکاروں اور ممکنہ درخواست دہندگان کے لیے معلوماتی نشستیں بھی منعقد کی جائیں گی۔ تفصیلات [یہاں](#) موجود ہیں۔

- جمعہ، 22 اکتوبر، شام 6:30 - 8 بجے تک
- پیر، 22 نومبر، شام 6:30 - 8 بجے تک

### برامپٹن میں تخلیقی کیریئرز کا فروغ

مقامی فنکاروں کو مزید معاونت کی فراہمی کے لیے ACCIDA [ورک کلچر](#) نے گروٹنگ کریٹیو کیریئرز ان برامپٹن کی پیشکش کی ہے، جو فنکاروں اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے 10 نشستوں پر مشتمل ایک مفت پیشہ ورانہ ترقیاتی ورکشاپ سیریز ہے۔ شرکاء کو ہر ہفتے اپنے تخلیقی کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے درکار آلات حاصل کرنے کے لیے تعاملی سرگرمیوں، نیٹ ورکنگ کے مواقع، ماہرین کے مشورے حاصل کرنے اور ڈراپ ان نشستوں میں شرکت کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ تفصیلات [accida.ca](http://accida.ca) پر دستیاب ہیں۔

### درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟

معلوماتی نشستوں میں اندراج کرنے اور ایڈوانس برامپٹن فنڈ اور کووڈ-19 آرٹسٹ ریکوری فنڈ، دونوں کے بارے میں تفصیلات، اہلیت کا معیار اصول اور درخواست دینے کے بارے میں معلومات دیکھنے کے لیے [brampton.ca/communitygrants](http://brampton.ca/communitygrants) ملاحظہ کریں۔

### اقتباسات

"ہمارے فنکاروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کو کمیونٹی کی بہتر خدمت اور کووڈ-19 وباء سے بحالی میں مدد کے لیے اب پہلے سے کہیں زیادہ ہماری حمایت کی ضرورت ہے۔ برامپٹن مواقع کا شہر ہے اور مجھے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کی جاری کامیابیوں اور اس سے ہماری غیر منافع بخش تنظیموں کو پہنچنے والے فوائد کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے فنکاروں کے لیے انفرادی حیثیت میں اس نئے موقع کو متعارف کرانے پر بھی فخر ہے۔ برامپٹن کی تخلیقی کمیونٹی اس وباء سے نمایاں طور پر متاثر ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ آگے بڑھنے اور بحالی کا عمل دوبارہ شروع کرنے میں انہیں اس موقع سے خاطر خواہ مدد ملے گی۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے لیے درخواستوں کا ایک اور دور کھاتے ہوئے دیکھ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے اور میں برامپٹن کی تمام غیر منافع بخش تنظیموں کو درخواست دینے کی ترغیب دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا غیر منافع بخش شعبہ کمیونٹی کے لیے جو کام کرتا ہے وہ انمول ہے، خاص طور پر جبکہ ہم اس وباء سے نجات حاصل کرنے کے مرحلے میں ہیں۔ فنڈنگ کا یہ موقع بلاشبہ برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"مجھے یہ دیکھ کر بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ سٹی آف برامپٹن اور آرٹس، کلچر اینڈ کریٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی نے ہمارے فنکاروں کو وباء سے نجات پانے اور پھلنے پھولنے کے لیے درکار مدد حاصل کرنے میں معاونت کی فراہمی کے لیے فنڈنگ کا یہ نادر موقع متعارف کرایا ہے۔ برامپٹن کے فنکار کووڈ-19 سے نمایاں طور پر متاثر ہوئے ہیں اور برامپٹن کے اس خوبصورت تنوع کے لیے موجود معاونت کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ موقع ان کی مدد کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔"

- رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ کونسل پینل ممبر، آرٹس، کلچر اینڈ کریینیٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی

"سٹی آف برامپٹن کی کلچرل سروسز ٹیم، ایڈوانس برامپٹن فنڈ اور فنکاروں کے لیے کووڈ-19 ریکوری فنڈ جیسے مواقع کی فراہمی کے ذریعے ہماری کمیونٹی کی مدد کے لیے وقف ہے۔ میں دستیاب مالی معاونت کے ان دھاروں میں دلچسپی رکھنے والے تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ معلوماتی نشستوں میں ضرور شرکت کریں اور اپنی درخواستیں جمع کرائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

#### میڈیا کنٹیکٹ

پرابجوت کینتھ

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Prabhjot.Kainth@brampton.ca](mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca)